



## سوال

(749) باجماعت نماز میں شامل ہونے کے طریقہ

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اگر جماعت کھڑی ہوئی ہو تو اس میں کس طرح شامل ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 'سبحان اللہ' پڑھ کر اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ خواہ جماعت سجدے میں ہو یا التیمات میں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نمازی کے لیے نماز میں داخل ہونے کی صورت، چاہے جماعت ہو یا انفرادی حالت میں، جماعت کے آغاز میں ہو یا وسط یا اخیر میں، ہر صورت میں شریعت مطہرہ میں ایک ہی طریقہ مقرر و متعین ہے اور وہ ہے 'اللہ اکبر' نہ کہ 'سبحان اللہ' اس کے بغیر کوئی شخص نماز میں داخل نہیں سمجھا جاسکتا۔

حدیث میں ہے:

'تَحْرِيْمُنَا التَّلْبِيْءَ' (سنن ابی داؤد، باب الإمام یُحَدِّثُ بَعْدَ تَرْفِيعِ رَأْسِهِ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ، رقم: ۶۱۸) اسی طرح حدیث 'مُسْبِيِ الصَّلَاةِ' میں مذکور ذکر کی صراحت موجود ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو! (تہذیب السنن، لابن قیم) زیر حدیث مذکور

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 641

محدث فتویٰ